

## 13543 - جب کسی شخص کے گھر میں اچانک کوئی فوت ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے

### سوال

جب کسی کا کوئی قریبی شخص اچانک فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے؟، بہت سے ان لوگوں اور ہر خاندان میں یہی سوال تکرار سے پیدا ہوتا ہے جن کے پاس اس موضوع کے متعلق شریعت مطہرہ کا علم نہیں ہوتا۔  
کیا آپ ہمیں دلائل کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے جو اس بارہ میں کیا جائے، حتیٰ کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی اس جیسے واقع سے دوچار ہو تو وہ اس میں کسی بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، یا غلطی نہ کر لے؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جب میت کی روح پرواز کر جائے اور اس کے اقرباء اور رشتہ داروں یا اس کے پاس موجود افراد کو مندرجہ ذیل کام کرنے چاہیں:

ا - اس کی آنکھیں بند کریں.

ب - اس کے لیے دعا بھی کریں.

اس کی دلیل یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کیں اور پھر فرمایا:

"جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو ان کے گھر کے کچھ افراد چپخنے لگے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے لیے دعائے خیر کے علاوہ کوئی اور دعا نہ کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں.

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اور مہدیین میں اس کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہنے والوں میں تو

اس کا جانشین بن جا، اے رب العالمین ہمیں اور اسے بخش دے، اور اس کے لیے اس کی قبر کو فراخ اور وسیع کردے، اور اسے نور و روشنی سے بھر دے"

اسے مسلم اور احمد اور بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

ج - اسے کپڑے سے ڈھانپ دیں جو اس کا سارا جسم چھپائے۔

اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ:

" جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انہیں سوتی چادر سے ڈھانپا گیا "

اسے شیخان بخاری اور مسلم نے صحیحین اور بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

د - یہ تو اس کے متعلق ہے جو احرام کی حالت میں فوت نہ ہو، لیکن جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا۔

اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مندرجہ ذیل حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

" ایک شخص میدان عرفات میں وقوف کی حالت میں تھا تو وہ اچانک اپنی سواری سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اسے پانی اور بیری سے غسل دو اور دو کپڑوں میں کفن دو "

اور ایک روایت میں ہے:

" اس کے دو کپڑوں میں ہی ( جن میں اس نے احرام باندھا تھا ) "

اور اسے حنوط لگاؤ "

اور ایک روایت میں ہے:

" اسے خوشبو نہ لگاؤ "

اور اس کا سر [ اور چہرہ نہ ] ڈھانپو کیونکہ روز قیامت اسے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا "

اسے شیخین بخاری و مسلم نے صحیحین میں اور ابو نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے المستخرج اور بیہقی نے روایت کیا ہے،

اور زیادہ الفاظ بخاری میں نہیں ہیں۔

ہ۔ جب اس کی موت واضح ہو چکی ہو تو پھر اس کی کفن دفن کی تیاری جلد کرنی چاہیے۔

اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ ذیل مرفوع حدیث ہے:

" جنازہ میں جلدی کرو اگر وہ نیک اور صالح ہے تو پھر تم اسے خیر و بھلائی کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو پھر تم اپنے کندھوں سے شر کو اتار رہے ہو"

صحیح بخاری و صحیح مسلم، اور یہ سیاق مسلم شریف کا ہے، اور اسے سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے، اور ترمذی اور احمد اور بیہقی نے کئی ایک طرق سے ابو ہریرہ ہی کی روایت سے صحیح قرار دیا ہے۔

و۔ میت کو اسی شہر اور ملک میں دفن کریں جہاں وہ فوت ہوا ہے، اور اسے کہیں دوسری جگہ منتقل نہ کریں، کیونکہ یہ جلدی کرنے کے منافی ہے جس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔

اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بھائی جب وادی حبشہ میں فوت ہو گیا تو اسے وہاں سے اٹھا لیا گیا تو وہ فرمانے لگیں:

" میں اپنے دل میں نہیں پاتی، یا مجھے افسوس ہے مگر یہی خواہش تھی کہ اسے اس کی جگہ ہی دفن کر دیا جاتا" اسے بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ "الانکار" میں کہتے ہیں:

" اور جب وصیت کی جائے کہ اسے دوسرے ملک اور علاقے میں منتقل کیا جائے تو اس کی وصیت پوری نہ کی جائے، کیونکہ صحیح اور مختار مذہب کے مطابق جس اکثر علماء قائل بھی ہیں اور محققون نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا حرام ہے"

ز۔ ان میں بعض افراد میت کے مال سے اس کا قرض ادا کرنے میں جلدی کریں، اگرچہ اس کا سارا ترکہ ہی قرض کی ادائیگی میں ختم ہو جائے، اور اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو اور قرض ادا کرنا مشکل ہو تو پھر حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے، اور اگر حکومت ادا نہیں کرتی اور بعض اقربا اور رشتہ دار تطوعاً ادائیگی کر دیں تو جائز ہے۔

سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

" ان کا بھائی فوت ہو گیا اور اس نے تین سو درہم ترکہ میں چھوڑے اور اپنے پیچھے بچے اور عیال بھی چھوڑے، تو میں نے یہ درہم ان پر خرچ کرنا چاہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا:

" یقیناً تمہارا بھائی اپنے قرض میں جکڑا ہوا اور محبوس ہے، جاؤ جا کر اس کا قرض ادا کرو"

تو میں نے جا کر اس کا قرض ادا کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے صرف دو دینار باقی ہیں جن کا دعویٰ ایک عورت کر رہی ہے، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اسے دے دو کیونکہ وہ حقدار ہے "

اور ایک روایت میں ہے: " وہ سچی ہے "

اسے ابن ماجہ اور احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور اس کی ایک روایت صحیح ہے، اور دوسری ابن ماجہ کی سند کی طرح ہے، بوضیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے الزوائد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھایا"

اور ایک روایت میں ہے کہ:

" جب نماز جنازہ ختم کی تو فرمایا: " کیا فلان خاندان والوں میں سے کوئی شخص یہاں ہے؟

سب لوگ خاموش رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ابتداء میں خود کلام کرتے تو لوگ خاموش رہتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی بار کہا، تین بار کہنے کے باوجود کسی نے جواب نہ دیا، تو ایک شخص کہنے لگا: وہ شخص یہ ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی تہہ بند کھینچتا ہوا لوگوں کے پیچھے سے کھڑا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا:

" پہلی دونوں بار تجھے کس چیز نے مجھے جواب دینے سے منع کیا؟ "

میں تو تمہارے لیے خیر و بھلائی کے علاوہ کچھ ذکر نہیں کرتا، فلان شخص ( ان میں سے ایک ) اپنے قرض میں جنت

سے محبوس ہے، اگر تم چاہو تو اسے چھڑا لو اور فدیہ دو، اور اگر تم چاہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سپرد کر دو"

سمرہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ اس کے اہل و عیال اور جو اس کا خیال کرتے تھے انہوں نے اس کا قرض ادا کر دیا  
"حتیٰ کہ کوئی بھی طلب کرنے والا باقی نہ رہے"

اسے ابو داؤد اور نسائی اور حاکم، بیہقی، اور طیالسی نے اپنی مسند میں اور اسی طرح احمد نے روایت کیا ہے، بعض نے شعبی عن سمرہ سے اور بعض نے شعبی اور سمرہ کے درمیان سمعان بن مشنح کو داخل کر دیا ہے، اور یہ پہلی وجہ سے صحیح اور شیخین کی شرط پر ہے، جیسا کہ حاکم نے کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، اور دوسری وجہ کے مطابق صرف صحیح ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ سب مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔